



WAHL CLIPPER CORPORATION
World Headquarters
P.O. Box 578, Sterling, IL 61081

Wahl (UK) Limited Sterling House, Clipper Close Ramsgate, Kent CT12 5GG	Wahl Japan 日本ワール株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木 1-32-11 8F
Wahl Hungária Kft H-9200 Mosonmagyaróvár Barátság u.6. Hungary	Wahl SE Asia Pte. Ltd. 51 Goldhill Plaza #12-07 / 08/09/10 Singapore 308900
Wahl International Consumer Group B.V. Engelenburgstraat 36 7391 AM Twello, The Netherlands	Wahl Australia PTY LTD PO Box 456 Acacia Ridge QLD 4110, Australia
Wahl Spain Fernando Giner de los Ríos 12 46910 Sedaví Valencia, Spain	Wahl NZ Limited PO Box 38 323 Wellington Mail Centre Lower Hutt 5045, New Zealand
Wahl France SAS 1c rue Foch 67450 Mundolsheim France	Wahl Clipper Colombia SAS Calle 140 #11-45 Oficina 518 Bogota Colombia 110111
WAHL Italia s.r.l. Via Gobetti 52 - 1° piano I-40129 Bologna (BO) Italia	WAHL CLIPPER BRASIL Rua. Professor Luiz Leite, 150 Bairro Eldorado - São Jose dos Campos - SP Cap: 12238-576
Представительство в РФ и РБ: ООО УОЛЛ Рус Ракетный бульвар, д. 16 129164 Москва / Russia (Россия)	Wahl Argentina Av. Alvarez Jonte 5655 Buenos Aires (C1407GPK), Argentina
Wahl India Grooming Products Pvt Ltd. B-1002, 10TH Floor, B-Wing, Lotus Corporate Park, Off Jay Coach Flyover, Western Express Highway, Goregaon-East, Mumbai 400-063	WAHL MEA FZCO Dubai Airport Free Zone P.O. Box 371395, Dubai UAE
	Wahl Clipper (Pty) Ltd PO Box 2916 Bedfordview, Gauteng 2007 South Africa

© 2022
Wahl® is a registered trademark
of Wahl Clipper Corporation
Revision 01/22 V1

www.wahl-consumer.com

PROOF OF PURCHASE

PRODUCT (MODEL NUMBER)

نوع ا • نوع • TIPO • MODELO • MODELE

DATE OF PURCHASE (YYYY/MM/DD)

تاریخ خرید • تاریخ ا لشراء • DATE D'ACHAT • FECHA DE COMPRA • DATA DE COMPRA

DEALER STAMP & SIGNATURE

CACHET ET SIGNATURE DU DÉTAILLANT • SELLO Y FIRMA DEL ESTABLECIMIENTO • CARIMBO E ASSINATURA DO COMERCIANTE
مهر و امضاء فروشنده • ختم بتوقيع ا لتاجر



1. فروشنده، علاوه بر مطالبات موضوع قانون و/یا قرارداد فروش که از نقص‌های مادی ناشی می‌شوند، حقوق ناشی از این ضمانتنامه را نیز به خریدار اعطا می‌کند. این حقوق محدود به این ضمانتنامه نیست.

2. شرکت WAHL این تضمین را می‌دهد که لوازم برقی کوچکش عاری از هر گونه نقص و ایراد باشند. قطعاتی که در نتیجه استعمال کهنه و خورده می‌شوند مثل فول‌های ریش‌تراش، قطعات درایو، ست تیغه‌ها، لوازم پیوستی، برس‌ها، باتری‌ها یا سلول‌های باتری مشمول این ضمانتنامه نیستند.

ضمانتنامه موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:
• استفاده نادرست و بی‌احتیاطی در استفاده از دستگاه،
• آسیب دیدن دستگاه بر اثر فشار بیش‌از حد، استفاده نادرست یا تأثیر عوامل بیرونی،
• نقص دستگاه بر اثر رعایت نکردن نکات قید شده در دفترچه راهنمای کاربری،
• تعمیر یا اقدام برای تعمیر توسط افرادی غیر از کارشناسان کارخانه WAHL یا مراکز فروش مجاز شرکت.

• اصلاح الجهاز أو محاولة إصلاحه من طرف طاقم تقني لا ينتمي لمركز صيانة شركة WAHL أو لأي نقط من نقاط البيع الجهاز.

3. بجز در موارد قید شده در این ضمانتنامه، دوره ضمانت منوط به طول دوره محدودیت مربوط به نقص‌های مادی مصوب قوانین داخلی کشوری است که دستگاه در آن خریداری شده‌است.

این دوره از زمان تحویل دستگاه از سوی فروشنده به خریدار شروع می‌شود.
باید با ارسال مدرک خرید مثل رسید فروش، فاکتور، یادداشت تحویل و یا سندی مشابه مکان خرید و تاریخ تحویل دستگاه را اثبات کرد.

4. شرکت WAHL بدون دریافت هزینه اضافی هر گونه نقصی را که در طول مدت ضمانت به وجود آمده باشد، برطرف خواهد کرد مشروط بر آنکه ظرف مدت سه هفته پس از ایجاد نقص مراتب کتبا به اطلاع ما رسیده باشد. عملیات تعمیر در محل کارخانه WAHL و یا فروشگاه‌های مجاز آن انجام خواهد گرفت. WAHL حق دارد با تحویل دستگاهی که از نظر ساختار با دستگاه خراب یکسان باشد نقص را جبران کند. سایر مطالبات خریدار ناشی از این ضمانتنامه، مخصوصاً مطالبه جبران هزینه‌ها، کمورات، جبران خسارات و یا حق استرداد استثنائاً خواهد بود. مطالبات قانونی یا سایر مطالبات مشمول قرارداد که ناشی از نقص‌های فنی باشند تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
اگر بر طبق این ضمانتنامه خدماتی انجام گیرد، مدت ضمانت تمدید نخواهد شد.

5. منتقل ملكية القطع المستبدلة أو الجهاز التالف في حالة تلقي الزبون لجهاز آخر إلى شركة WAHL.

6. في حال استفادة الزبون من خدمات مركز صيانة WAHL بشكل غير مربر فإن الشركة سوف تطالب الزبون بتسديد المبالغ المستحقة الناجمة عن ذلك.

7. في حالة وقوع أي خلل بالجهاز يرجى التوجه للبائع أو الإتصال بعنوان مركز الصيانة الحالي.

1. فروشنده، علاوه بر مطالبات موضوع قانون و/یا قرارداد فروش که از نقص‌های مادی ناشی می‌شوند، حقوق ناشی از این ضمانتنامه را نیز به خریدار اعطا می‌کند. این حقوق محدود به این ضمانتنامه نیست.

2. شرکت WAHL این تضمین را می‌دهد که لوازم برقی کوچکش عاری از هر گونه نقص و ایراد باشند. قطعاتی که در نتیجه استعمال کهنه و خورده می‌شوند مثل فول‌های ریش‌تراش، قطعات درایو، ست تیغه‌ها، لوازم پیوستی، برس‌ها، باتری‌ها یا سلول‌های باتری مشمول این ضمانتنامه نیستند.

ضمانتنامه موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:
• استفاده نادرست و بی‌احتیاطی در استفاده از دستگاه،
• آسیب دیدن دستگاه بر اثر فشار بیش‌از حد، استفاده نادرست یا تأثیر عوامل بیرونی،
• نقص دستگاه بر اثر رعایت نکردن نکات قید شده در دفترچه راهنمای کاربری،
• تعمیر یا اقدام برای تعمیر توسط افرادی غیر از کارشناسان کارخانه WAHL یا مراکز فروش مجاز شرکت.

3. بجز در موارد قید شده در این ضمانتنامه، دوره ضمانت منوط به طول دوره محدودیت مربوط به نقص‌های مادی مصوب قوانین داخلی کشوری است که دستگاه در آن خریداری شده‌است.

این دوره از زمان تحویل دستگاه از سوی فروشنده به خریدار شروع می‌شود.
باید با ارسال مدرک خرید مثل رسید فروش، فاکتور، یادداشت تحویل و یا سندی مشابه مکان خرید و تاریخ تحویل دستگاه را اثبات کرد.

4. شرکت WAHL بدون دریافت هزینه اضافی هر گونه نقصی را که در طول مدت ضمانت به وجود آمده باشد، برطرف خواهد کرد مشروط بر آنکه ظرف مدت سه هفته پس از ایجاد نقص مراتب کتبا به اطلاع ما رسیده باشد. عملیات تعمیر در محل کارخانه WAHL و یا فروشگاه‌های مجاز آن انجام خواهد گرفت. WAHL حق دارد با تحویل دستگاهی که از نظر ساختار با دستگاه خراب یکسان باشد نقص را جبران کند. سایر مطالبات خریدار ناشی از این ضمانتنامه، مخصوصاً مطالبه جبران هزینه‌ها، کمورات، جبران خسارات و یا حق استرداد استثنائاً خواهد بود. مطالبات قانونی یا سایر مطالبات مشمول قرارداد که ناشی از نقص‌های فنی باشند تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
اگر بر طبق این ضمانتنامه خدماتی انجام گیرد، مدت ضمانت تمدید نخواهد شد.

5. قطعات تعویض شده در حین انجام تعمیرات مشمول ضمانتنامه یا دستگاه خراب تحویل گرفته شده، در صورت تعویض دستگاه، جز اموال WAHL خواهد بود.

6. اگر کارکنان خدمات پس از فروش ما بدون دلیل موجه فرا خوانده شوند، شرکت WAHL حق دارد هزینه‌های ایجاد شده مربوطه را از مشتری دریافت نماید.

7. در صورت بروز هر نوع نقصی، لطفاً با فروشنده یا مرکز خدمات موجود در کشور تماس بگیرید.

1. مادے کے نقائص سے فروخت کے قانون/یا معاہدہ کے تحت پیدا ہونے والے دعوؤں کے علاوہ، اس گارنٹی سے پیدا ہونے والے حقوق فروخت کنندہ کے ذریعہ گاہک کو دیئے جاتے ہیں۔ گارنٹی کے لحاظ سے یہ حقوق محدود نہیں ہوں گے۔

2. WAHL اپنے چھوٹے بجلی کے آلات کے کسی بھی قسم کے نقائص سے پاک ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ لگانے اور چیر پھاڑ کئے جانے والے حصے جیسے شیور فالٹز، ڈرائیو کے اجزاء، بلیڈ سیٹس، منسلکات، برسز، بیٹیاں یا بیٹری کے سیلز کو اس گارنٹی میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔

گارنٹی خارج کر دی جاتی ہے اگر:
• آلہ کا غلط یا لاپرواہی سے استعمال کیا گیا ہو
• ضرورت سے زیادہ دباؤ، غلط استعمال یا بیرونی اثر کی وجہ سے آلہ خراب ہوگیا ہو
• نقص آپریٹنگ کی ہدایات پر عمل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو
• مرمت یا مرمت کی کوشش WAHL فیکٹری یا مجاز شدہ فروخت کے مقام کے اہلکاروں کے بجائے کسی اور کے ذریعہ کی گئی ہو۔

3. اگر دوسری صورت میں بیان نہیں کیا گیا ہو، تو گارنٹی کی مدت ملک کے گھریلو قانون میں مادی نقائص کی حدود کی قانونی مدت کی طوالت سے مشروط ہے جس میں آلہ کی خریداری کی گئی ہو۔ مدت فروخت کنندہ سے خریدار تک سامان کی فراہمی کے وقت شروع ہوگی۔ خریداری کے مقام اور فراہمی کی تاریخ کو خریداری کا ثبوت پیش کرکے ثابت کیا جائے گا، مثال کے طور پر، فروخت کی رسید، ان وائٹس، فراہمی کا نوٹ یا اسی طرح کا کوئی دستاویز۔

4. اگر ہمیں ان کی موجودگی کے تین ہفتوں کے اندر تحریری طور پر مطلع کیا جاتا ہے تو WAHL بغیر کسی بھی اضافی خرچ کے گارنٹی کی مدت کے دوران پیدا ہونے والے نقائص کو دور کرے گا۔ مرمت WAHL فیکٹری میں یا WAHL کے ذریعہ مجاز شدہ فروخت کے مقام پر انجام دی جائے گی۔ تعمیر میں بوبہو آلہ کی فراہمی کے لحاظ سے نقص کو ٹھیک کرنے کے لئے WAHL ذمہ دار ہے۔ اس گارنٹی سے پیدا ہونے والے صارفین کے مزید دعووں، خاص طور پر اخراجات کی ادائیگی، کٹوتی، نقصانات کے لئے معاوضے یا واپسی کے حق سے متعلق دعوے خارج کئے جائیں گے۔ مادی نقائص سے پیدا ہونے والے قانونی یا دیگر معاہداتی دعوے غیر متاثر رہیں گے۔ اگر خدمات کو گارنٹی کی شرائط کے تحت انجام دیا جاتا ہے تو ضمانت کی مدت میں توسیع نہیں کی جائے گی۔

5. وارنٹی کے تحت مرمت کرتے وقت تبدیل کئے جانے والے حصے یا متبادل ڈلیوری کی صورت میں برقرار رکھے ہوئے آلات WAHL کی ملکیت بن جائیں گے۔

6. اگر ہماری کسٹمر سروسز کو بلا وجہ طلب کیا جاتا ہے، تو WAHL کو ہونے والے اخراجات کو گاہک سے وصول کرنے کا حق ہوگا۔

7. کسی بھی قسم کے نقائص ہونے کی صورت میں، براہ کرم اپنے ملک میں اپنے ڈیلر یا سروس سینٹر سے رابطہ کریں۔

en fr es pt ar fa ur

GENERAL
PRODUCT WARRANTY

art no: 94636-400
1003490
1500.1016



pt CERTIFICADO DE GARANTIA (BRASIL)**GUARDE ESTE DOCUMENTO EM LUGAR SEGURO**

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

A **Wahl Clipper Brasil**, garante este produto por 2 anos, sendo 90 dias de garantia legal e 1 ano e 9 meses de garantia contratual, a partir da data de compra do produto, acompanhado da nota fiscal e da garantia devidamente preenchida. A garantia inclui o conserto ou troca do produto contra qualquer defeito de fabricação, sem nenhum custo adicional para o cliente. **Nossa garantia não cobre os fios, carcaças e lâminas.**

O produto que não estiver sobre a vigência da garantia será consertado de acordo com a tabela de preços da assistência técnica nomeada e autorizada pela Wahl Clipper Brasil.

A GARANTIA SERÁ ANULADA CASO:

- **Seja constatado que o produto foi inspecionado por terceiros, ou reparado por alguma assistência técnica não autorizada pela Wahl.**
- **O aparelho apresente mudanças em suas características originais.**
- **Seja detectado pela Wahl Clipper Brasil e/ou pela assistência técnica o uso inadequado do produto.**
- **O defeito for apresentado decorrente de desgaste natural do produtos, agentes da natureza, transporte e armazenagem indevida.**
- **Não forem cumpridas as recomendações contidas no manual de instrução.**

O uso da garantia não prolonga o prazo de validade da mesma. No caso em que alguma peça tenha sido substituída, a garantia do produto passará a ser de somente três (3) meses para o aparelho e de seis (6) meses para as baterias.

O compromisso por parte da Wahl Clipper Brasil fica limitado ao correto desempenho e/ou conserto do aparelho, ficando excluída qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos que o produto possa eventualmente ocasionar.

Os aparelhos defeituosos deverão ser encaminhados diretamente a assistência técnica nomeada pela **Wahl Clipper Brasil**.

Wahl Clipper Do Brasil

Atendimento e assistência técnica em todo o Brasil

0800 772 2560

INSTRUÇÕES DE USO:

- Verificar a voltagem do aparelho antes de ligá-lo
- Desconectar o aparelho, uma vez desligado
- Não usar nunca o aparelho dentro da água ou outro líquido
- Se o aparelho molhar, desligá-lo imediatamente até secar completamente
- Limpar e lubrificar as lâminas, para evitar danos



WAHL®

IMPORTA, DISTRIBUI E GARANTE: **WAHL CLIPPER BRASIL**
CNPJ: 08.011.326/0001-26

Legal e com selo do INMETRO
Disque Denúncia:
0800 888 3519

en 1. In addition to the claims under the law and/or contract of sale which arise from material defects, the rights arising from this guarantee are granted by the seller to the customer. These rights shall not be limited by the guarantee.

2. WAHL® guarantees its small electrical appliances be free of any defects. Parts that are subject to wear and tear such as shaver foils, drive components, blade sets, attachments, brushes, batteries or battery cells are not included in this guarantee.

The guarantee is excluded if:

- The appliance has been misused or treated carelessly
- The appliance has been damaged due to excessive stress, incorrect use or external influence
- The defect has been caused by failure to observe the operating instructions
- A repair or a repair attempt has been carried out by personnel other than that of a WAHL® factory or of an authorised point of sale

3. If not stated otherwise, the guarantee period is subject to the length of the statutory period of limitation for material defects of the domestic law of the country in which the appliance has been purchased. The period shall commence at the time of delivery of the appliance from the seller to the purchaser. The place of purchase and the date of delivery shall be proven by submitting proof of purchase, for example, the sales receipt, invoice, delivery note or similar document.

4. WAHL® shall eliminate at no additional cost any defects that occur during the guarantee period if we are notified in writing within three weeks of their occurrence. Repairs will be carried out at a WAHL® factory or at a point of sale authorised by WAHL®. WAHL® is entitled to remedy the defect by delivery of a appliance identical in construction. Further claims of the customer arising from this guarantee, particularly claims for reimbursement of expenses, reduction, compensation for damages or the right of withdrawal, shall be excluded. Statutory or other contractual claims arising from material defects shall remain unaffected. The guarantee period shall not be extended if services are performed under the terms of the guarantee.

5. The parts replaced when carrying out the repairs under warranty or the appliance retained in case of replacement delivery shall become property of WAHL®.

6. If our customer services are called upon without due cause, WAHL® shall be entitled to charge the costs incurred to the customer.

7. In case any defects occur, please contact your dealer or the service centre in your country.

fr 1. Les droits issus de cette garantie s'ajoutent aux droits légaux et/ou contractuels pour vices cachés revenant au client vis-à-vis de son vendeur. Ces droits ne sont pas limités par la garantie.

2. La société WAHL® accorde pour les appareils de petit électroménager une garantie contre les vices cachés. La garantie ne couvre pas les pièces des appareils soumises à l'usure, telles que par ex. les grilles, les éléments du moteur, les têtes de coupe, les brosses, les piles ou piles rechargeables (pièces d'usure).

Les prestations de garantie sont exclues dans les cas suivants :

- Das Gerät missbräuchlich verwendet oder mit mangelnder Sorgfalt behandelt wurde
- Das Gerät durch übermäßige Beanspruchung, unsachgemäße Behandlung oder Fremdeinwirkung beschädigt wurde
- Der Mangel durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstanden ist
- Eine Reparatur oder ein Reparaturversuch durch anderes Personal als das eines Werks von WAHL® oder einer autorisierten Verkaufsstelle durchgeführt wurde

3. Soweit nicht anders angegeben, richtet sich die Garantiezeit nach der Dauer der gesetzlichen Sachmängelverjährungsfrist des nationalen Rechts des Staates, in dem das Gerät erworben wurde. Die Frist beginnt mit der Übergabe des Gerätes durch den Verkäufer an den Käufer. Der Ort des Erwerbs und der Zeitpunkt der Übergabe sind durch Vorlage eines Kaufbelegs wie Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein oder Ähnliches nachzuweisen.

4. Mängel, die innerhalb der Garantiezeit auftreten und die uns innerhalb von drei Wochen nach ihrem Auftreten in Textform angezeigt werden, werden von WAHL® im Rahmen dieser Garantie kostenlos beseitigt. Die Reparaturen werden in einem Werk von WAHL® oder in einer von WAHL® autorisierten Verkaufsstelle ausgeführt. WAHL® ist berechtigt, den Mangel auch durch Lieferung eines baugleichen Gerätes zu beseitigen. Weitergehende Ansprüche des Kunden aus dieser Garantie, insbesondere auf Aufwendungsersatz, Minderung, Schadenersatz oder das Recht zum Rücktritt bestehen nicht. Gesetzliche oder andere vertragliche Sachmängelansprüche bleiben unberührt. Durch die Erbringung von Garantieleistungen tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein.

5. Die im Rahmen von Garantiereparaturen ausgetauschten Teile oder das bei Ersatzlieferung einbehaltene Gerät gehen in das Eigentum von WAHL® über.

6. Bei unberechtigter Inanspruchnahme unseres Kundendienstes ist WAHL® berechtigt, dem Kunden die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

7. Bei aufgetretenen Mängeln wenden Sie sich bitte an den Vertreter des Gerätes bzw. an die Serviceadresse Ihres Landes.

es 1. Los derechos otorgados por esta garantía tienen validez junto con los derechos de reclamación por vicios en las cosas contractuales y legales que corresponden al cliente frente al distribuidor al que haya comprado el aparato. La presente garantía no limita tales derechos.

2. WAHL® otorga para sus pequeños aparatos eléctricos una garantía de defectos. Quedan excluidos de la garantía los componentes del producto sometidos a desgaste, como son hojas de corte, componentes del accionamiento, cabezales de corte, cepillos, baterías recargables y pilas (piezas de desgaste).

La garantía no cubre los siguientes supuestos:

- Daños provocados por un uso indebido o negligente del aparato
- Daños provocados por haber sometido el aparato a un esfuerzo excesivo, por un trato inadecuado o por acciones externas
- Defectos ocasionados por no haber seguido las instrucciones de uso
- En caso de que personas ajenas al equipo técnico de WAHL® o a su distribuidor autorizado hayan realizado reparaciones o hayan intentado reparar el aparato

3. Salvo que se indique lo contrario, el periodo de garantía está sujeto a la duración del plazo de prescripción legal por defectos materiales de la legislación nacional del país en el que se ha adquirido el aparato. Dicho plazo empieza a contar a partir de la entrega del aparato al comprador por parte del vendedor. El lugar de adquisición y el momento de la entrega se documentarán en un justificante de compra como un ticket de caja, una factura, un albarán de entrega o similar.

4. WAHL® reparará sin coste los defectos cubiertos por la garantía que aparezcan durante el periodo de vigencia de dicha garantía y que sean comunicados a WAHL® por escrito en un plazo de tres semanas desde su aparición. Las reparaciones se llevarán a cabo en un centro de producción de WAHL® o en las instalaciones del distribuidor autorizado de WAHL®, WAHL® se reserva el derecho de reparar el defecto haciendo entrega de otro aparato de las mismas características. De esta garantía no se derivan otros derechos para el cliente, en especial no tendrá derecho al reembolso de los gastos, a una rebaja del precio, a reclamar una indemnización por daños ni podrá ejercer el derecho de retracto. No se verán afectados otros derechos de reclamación por vicios en las cosas contractuales o legales. El plazo de garantía no se prolonga por el hecho de hacer efectiva la garantía.

5. Las piezas sustituidas durante las reparaciones cubiertas por la garantía o el aparato en poder de WAHL® que ha sido reemplazado por otro pasan a ser propiedad de WAHL®.

6. WAHL® se reserva el derecho de facturar al cliente los gastos originados por un uso injustificado de nuestro servicio de asistencia técnica.

7. Si detecta algún defecto en el producto dirija-se a su proveedor habitual o al centro de servicio técnico de su país.

La garantía no es válida para productos que no cumplen con los requisitos de voltaje y/o enchufe del país donde se esté reclamando esta garantía.

pt 1. Os direitos desta garantia são concedidos adicionalmente aos da garantia por defeito material por lei e/ou contratual do cliente para com o respectivo vendedor. Estes direitos não são limitados pela garantia.

2. A WAHL® concede uma garantia pelos aparelhos eléctricos que confirma a ausência de falhas. Não fazem parte da garantia as partes do aparelho que são sujeitas a desgaste como, por exemplo, películas cortantes, componentes de accionamento, conjuntos de corte, escovas, pilhas ou baterias (peças de desgaste).

Esta garantia é excluída se:

- O aparelho foi utilizado de forma incorrecta ou com falta de cuidado
- O aparelho foi danificado devido a uso excessivo, tratamento incorrecto ou impacto externo
- A falha surgiu devido à inobservância do manual de instruções
- Foi efectuada uma reparação ou tentativa de reparação por outro pessoal que não o da fábrica da WAHL® ou de um ponto de venda autorizado

3. Caso não seja referido o contrário, o prazo de garantia depende da duração do prazo de prescrição das falhas materiais legal do direito nacional do estado, no qual o aparelho foi adquirido. O prazo inicia com a entrega do aparelho pelo vendedor ao comprador. A localidade da aquisição e o momento da entrega do aparelho têm de ser provados mediante apresentação da prova de compra como por ex. talão, factura, recibo de entrega ou documento semelhante.

4. Falhas que sejam verificadas dentro do prazo da garantia em forma de texto são reparadas, pela WAHL® no âmbito desta garantia, sem custos adicionais. As reparações são efectuadas numa fábrica da WAHL® ou num ponto de venda autorizado pela WAHL®. A WAHL® tem o direito a eliminar a falha também por um fornecimento de um aparelho da mesma construção. Outros direitos do cliente desta garantia, especialmente custos, redução, indenização ou o direito para a desistência, não existem. Garantias legais por defeitos contratuais mantêm-se inalteradas. A prestação de serviços de garantia não prolonga o período de garantia.

5. As peças substituídas no âmbito das reparações sob garantia ou o aparelho retido no fornecimento de substituição passam a ser propriedade da WAHL®.

6. Em caso de utilização indevida do nosso serviço de cliente, a WAHL® está autorizada a facturar os custos resultantes ao cliente.

7. Em caso de deficiências ocorridas dirija-se ao seu comerciante ou ao endereço do serviço de assistência do seu país.

WAHL CLIPPER CORP. HEADQUARTERS

World Headquarters
P.O. Box 578. Sterling, IL 61081

WAHL UK

Sterling House, Clipper Close
Ramsgate, Kent CT12 5GG
United Kingdom

Tel.: +44 01227 740066
customer.services@wahl.co.uk
http://wahl.co.uk

WAHL CLIPPER BRAZIL

Rua. Professor Luiz Leite, 150
Bairro Eldorado - Sao Jose dos Campos - SP
Cep: 12238-576

WhatsApp (12) 99200-8452
(12) 99248-4342
sac@wahlbrasil.com.br
br.wahl.com
wahlglobal.com

WAHL MEA FZCO

PO Box. 371395
Dubai Airport Free Zone, Dubai
United Arab Emirates

Tel.: +971 42948775
info@wahl-mea.com

WAHL CLIPPER (PTY) LTD

PO Box 2916 Bedfordview,
Gauteng 2007 South Africa

Tel.: 27 11 0860009245
reception@wahlsouthafrica.com

WAHL ARGENTINA

Av. Alvarez Jonte 5655,
Buenos Aires (C1407GPK),
Argentina

WhatsApp (11) 6809-9549
Service: 0810-333-4987
wahl@wahlargentina.com
ar.wahl.com



Wahl Website